



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سُورَةُ فَصَّلَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم

لم-

.1

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کچھ اتارا ہے بڑے مہربان رحم والے (کی طرف) سے۔

.2

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ

کتاب ہے کہ جُدی جُدی کی (کھول کھول کر بیان کی) ہیں اس کی آیتیں۔

.3

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قرآن عربی زبان کا، ایک سمجھ والے لوگوں کو۔

.4

بَشِيرًا وَنَذِيرًا

سناتا ہے خوشی اور ڈر۔

فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

پھر دھیان نہ لائے وہ لوگ، پھر وہ نہیں سنتے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ

اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے، جس طرف تو ہم کو بلاتا ہے،

وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے (بہرے ہیں)، اور ہمارے تمہارے بیچ میں اوٹ (پردہ حائل) ہے،

فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ

سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ

تو کہہ، میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا (وحی آتی) ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک حاکم (معبود) کی ہے،

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا<sup>ط</sup>

سو سیدھے رہو اسکی طرف اور اس سے گناہ بخشو اور۔

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

اور خرابی ہے شریک والوں (مشرکوں) کو۔

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

جو نہیں دیتے زکوٰۃ، اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

البتہ جو یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو نیگ (اجر) ملنا ہے جو بس (کبھی ختم) نہ ہو۔

قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا

تو کہہ کیا تم منکر ہو اس (ذات) سے جس نے بنائی زمین دو دن میں اور برابر کرتے ہو اسکے ساتھ اوروں کو،

ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

وہ ہے رب جہان کا۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا

اور رکھے اس (زمین) میں بوجھ (پہاڑ) اوپر سے اور برکت رکھی اسکے اندر

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءٍ لِلنَّاسِ لِيُنْذِرَ

اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی چار دن میں۔ پوری پوچھنے والوں (حاجت مندوں) کو۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

پھر چڑھا آسمان کو اور دھواں ہو رہا تھا،

فَقَالَ هَٰذَا وَالدَّارِضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

پھر کہا اس کو اور زمین کو، آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا<sup>ج</sup>

پھر ٹھہرائے سات آسمان دودن میں، اور اتار اہر آسمان میں حکم (قانون) اس کا۔

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا<sup>ج</sup>

اور رونق دی ہم نے آسمان کو چراغوں سے اور نگہبانی (کی شیطانوں سے)۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ سادھا (منصوبہ) ہے زبردست خبردار کا۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

پھر اگر وہ ٹلادیں (منہ موڑیں) تو تو کہہ،

میں نے خبر سنادی تم کو ایک کڑا کے (عذاب) کی، جیسے کڑا کا (عذاب) آیاعاد اور ثمود پر۔

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ<sup>ط</sup>

جب آئے انکے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے (بھی)، (اور ان کو سمجھایا) کہ نہ پوجو کسی کو سوا اللہ کے۔

قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا بِهِم مُّرْسِلَةٌ بِهِ كَافِرُونَ

کہنے لگے، اگر ہمارا رب چاہتا تو اتار تا فرشتے، سو ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے۔

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا آمِنٌ بِأَشْدُّ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ<sup>ط</sup>

سو وہ جو عادتھے غرور کرنے لگے (تھے) ملک میں ناحق کا اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زور میں؟

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً<sup>ط</sup>

کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں؟

وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدْرِقَهُمْ عَذَابِ الْحَزْبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ط</sup>

پھر بھیجی ہم نے ان پر باؤ (ہوا) ٹھنڈی (ٹھنڈی) زور کی (طوفانی)، کئی دن مصیبت کے

(۳) کہ چکھائیں ان کو رسوائی کی مار، دنیا کے جیتے (دنیوی زندگی میں)۔

وَلَعَذَابِ الْآخِرَةِ أَحْزَى<sup>ط</sup> وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ

اور آخرت کی مار میں تو پوری رسوائی ہے، اور (اس روز) ان کو کہیں مدد نہیں (ملے گی)۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى

اور وہ جو ثمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بنائی (پیش کی)،

پھر ان کو خوش (اچھا) لگا اندھے رہنا سو جھنے (راستہ دیکھنے) سے۔

فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

پھر پکڑا ان کو کڑا کے نے ذلت کی مار کے، بدلہ (بسبب) اس کا جو کماتے (انکے کرتوت) تھے۔

وَجَعَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

اور بچا دیئے ہم نے جو یقین لائے تھے، اور بچ چلتے تھے (برے کاموں سے)۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

اور جسدن جمع ہوں (ہانکے جائیں) گے دشمن اللہ کے دوزخ پر پھر انکی مثلیں بیٹیں (درجہ بندی کی جائے) گی

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

یہاں تک کہ جب (وہ سب) پہنچے اس پر، (تو) بتا (گو اہی) دیں گے ان کو  
ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے (جسم کی کھالیں)، جو کچھ (اعمال) وہ کرتے تھے۔

وَقَالُوا الْجُلُودِ لَهُمْ سَهْلٌ عَلَيْهِمْ

اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں (اعضا) کو، تم نے کیوں بتایا (گو اہی دی ہمارے خلاف) ہم کو۔

قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

وہ بولے ہم کو بلوایا (گویائی دی) اللہ نے جس نے بلوایا (گویائی دی) ہے ہر چیز کو،

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اور اسی نے بنایا (پیدا کیا) تم کو پہلی بار، اور اسی کی طرف پھر (لوٹ کر) جاتے ہو۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَنْزِلُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ

اور تم پر وہ نہ کرتے تھے اس سے کہ تم کو بتادیں گے تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں، نہ تمہارے چمڑے،

وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو (تم) کرتے ہو۔

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو رکھتے تھے اپنے رب کے حق (بارے) میں، اسی نے تم کو کھپایا (ہلاک کیا)،

پھر آج رہ گئے ٹوٹے (خسارہ) میں۔

فَإِنْ يَصْدِرُوا فَاَلْتَائُوا مَثْوًى لَهُمْ<sup>ط</sup>

پھر اگر وہ صبر کریں (یا نہ کریں) تو آگ ان کا گھر (ٹھکانا) ہے،

وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ

اور اگر وہ منایا (توبہ کرنا) چاہیں، تو ان کو کوئی نہیں مناتا (توبہ نہ مانی جائے گی)۔

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّوْا لَهُمْ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اور لگا (مسلط کر) دی ہم نے ان پر تعیناتی (ایسے شیطان ساتھی)،

پھر انہوں نے بھلا (اچھا) دکھایا ان کو جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے (کے اعمال)،

وَحَقَّقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ<sup>ط</sup>

اور ٹھیک پڑی ان پر بات، مل کر سب فرقوں (امتوں) میں جو ہو چکے ہیں ان سے آگے (پہلے)

جنوں کے اور آدمیوں کے،

إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

اور وہ تھے ٹوٹے (خسارہ میں رہنے) والے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

اور کہنے لگے منکر نہ کان دھرو اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کرو (خلل ڈالو) اس کے پڑھنے میں،

شاید تم غالب ہو۔

فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

سو ہم کو ضرور چکھانی منکروں کو سخت مار (عذاب)، اور انکو بدلہ دینا بُرے سے بُرے کاموں کا جو کرتے تھے

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ

یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ (جہنم)۔

لَهُمْ فِيهَا دَائِرُ الْخُلْدِ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَأْتُونَ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ان کو اسی میں ہے گھر سدا کا۔ بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَخْلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

اور کہیں گے جو لوگ منکر ہیں،

اے رب ہمارے! ہم کو دکھا وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا، جو جن ہے اور جو آدمی،

نَجْعَلُهُمَّا تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

(تا) کہ (روند) ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، کہ وہ رہیں سب سے نیچے (ذلیل و خوار)۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

تحقیق (یقیناً) جنہوں نے کہا (شہادت دی) رب ہمارا اللہ ہے، پھر اسی پر ٹھہرا (ثابت قدم) رہے،

ان پر اترتے ہیں فرشتے



أَلَا تَتَخَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

(یہ کہتے ہوئے) کہ تم نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، اور خوشی سنو اس بہشت کی جس کا تم کو وعدہ تھا۔

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا (دنیاوی زندگی) میں اور آخرت میں،

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

اور تم کو وہاں ہے (ملے گا) جو چاہے، جی تمہارا، اور تم کو وہاں ہے (ملے گا) جو منگواؤ (گے)۔

نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

مہمانی ہے اُس بخشنے والے مہربان سے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام، اور کہا میں حکم بردار ہوں۔

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اور برابر نہیں نیکی نہ بدی۔

ادْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

جو اب میں (برائی کے) تو کہہ اس سے بہتر،

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

پھر جو تو دیکھے تو جس میں (اور) تجھ میں دشمنی تھی (ہو جائیں) جیسے دوست دار ہے ناتے والا (جگری)

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا دُونَ حَظِّ عَظِيمٍ

اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جو سہار (صبر) رکھتے ہیں۔

اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قسمت (نصیب) ہے۔

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

اور کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوکنے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بیشک وہی ہے سنتا جانتا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن، اور سورج اور چاند۔

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

(لہذا) سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو،

وَأَسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے وہ بنائے، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا

پھر اگر غرور کریں (تو کوئی پرواہ نہیں)

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۝

تو جو لوگ تیرے رب کے پاس (مقرب) ہیں، پاکی بولتے (تسبیح کرتے) ہیں اسکی رات اور دن

اور وہ نہیں تھکتے۔ (سجدہ)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۝

اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی (سوکھی) پڑی،

پھر جب اتارا (برسایا) ہم نے اس پر پانی، تازی ہوئی (لہلہائی) اور ابھری (پھولی)۔

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ ۝

بیشک جس نے اس کو جلایا (زندہ کیا)، وہ جلاوے (زندہ کرے) گا مردے۔

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وہ سب چیز کر سکتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۝

جو لوگ ٹیڑھے دھنتے (کجروی اختیار کرتے) ہیں ہماری باتوں (آیات) میں ہم سے پیچھے (چھپے) نہیں۔

أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

بھلا ایک جو پڑتا ہے (ڈالا جائے) آگ میں بہتر یا ایک جو آئے گا بچ کر اس سے دن قیامت کے۔

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

کرتے جاؤ جو چاہو، بیشک جو کرتے ہو وہ (اللہ) دیکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ<sup>ط</sup>

جو لوگ منکر ہوئے سمجھوتی (نصیحت) سے، جب ان پاس آئی۔

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

اور (حالانکہ) یہ کتاب ہے نادر۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ<sup>ط</sup>

اس میں جھوٹ کا دخل نہیں، آگے سے نہ پیچھے سے،

تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

اتاری ہے حکمتوں والے سب خوبیوں سرا ہے کی۔

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ<sup>ج</sup>

تجھ سے وہی کہتے ہیں جو کہہ دیا ہے سب رسولوں سے تجھ سے پہلے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

تیرے رب کے ہاں معافی بھی ہے، اور سزا بھی ہے دکھ والی۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُمْ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا الْوَلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ<sup>ط</sup>

اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری (عجمی) زبان کا، تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔

أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ<sup>ط</sup>

(یہ عجیب بات ہے) اوپری (عجمی) زبان اور عرب کا آدمی؟

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقِيْنَ

تو کہہ، یہ ایمان والوں کو سوجھ (ہدایت) ہے اور روگ کا دفع (شفا)۔

وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقُرْ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کو اندھا پا (نا بینائی)۔

اُوْلٰٓئِكَ يٰنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

اور (ایسا محسوس کرتے ہیں کہ) ان کو پکار یہی ہے دور کی جگہ سے۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب پھر اس میں پھوٹ پڑی (اختلاف کیا گیا)۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَفُضِيْ بَيْنَهُمْ

اور اگر نہ ہوتی ایک بات، جو پہلے نکل چکی تیرے رب سے، تو ان میں فیصلہ ہو جاتا۔

وَإِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ

اور وہ دھوکے میں ہیں اس سے جو چین نہیں دیتا۔

مَنْ عَمِلْ صٰلِحًا فَلِنَفْسِهِ

جس نے کی بھلائی سوا اپنے واسطے

وَمَنْ اَسٰءَ فَعَلَيْهَا

اور جس نے کی بُرائی وہ بھی اسی پر۔

.45

.46

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے بندوں پر۔

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ<sup>ج</sup>

اسی کی طرف حوالہ (علم) ہے خبر قیامت کی۔

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ شَمْرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهِنَّ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ<sup>ج</sup>

اور کوئی میوے نہیں جو نکلتے ہیں اپنے غلاف سے اور گابھ (حمل) نہیں رہتا کسی مادہ کو،

اور نہ وہ جنے جس کی اسکو خبر نہیں۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَئِینَ شَرَّكَائِي قَالُوا

اور جس دن ان کو پکارے گا، کہاں ہیں میرے شریک والے بولیں گے،

أَذْنَابِكُمْ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ

ہم نے تجھ کو کہہ سنایا، ہم میں کوئی نہیں اقرار کرتا۔

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ<sup>ط</sup> وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ لَحِيصٍ

اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے، اور انکے (سمجھ لیں گے) ان کو نہیں کہیں خلاصی۔

لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلُ قَنُوطَ

نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی اور اگر لگ جائے اس کو برائی (مصیبت) تو آس توڑے نا امید ہو کر۔

وَلَيْنِ أَدْنَاهُ رَحْمَةٌ مِّمَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي

اور اگر ہم چکھائیں اس کو کچھ اپنی مہر (رحمت)، پیچھے ایک تکلیف کے جو اسی کو لگی تھی،

تو کہنے لگے گا یہ ہے میرے لائق

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ

اور میں نہیں سمجھتا قیامت اٹھنی ہے (آئے گی)،

اور اگر میں پھر (پلٹا یا گیا) گیا اپنے رب کی طرف، بیشک مجھ کو ہے اسکے پاس خوبی،

فَلَنَنْبِتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَئِن يَفْقَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

سو ہم جنادیں گے منکروں کو، جو انہوں نے کیا ہے اور چکھائیں گے انکو ایک گاڑھی مار (سخت عذاب)۔

وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ

اور جب ہم نعمت بھیجیں انسان پر، ٹلا جائے (منہ موڑے) اور موڑے اپنی کروٹ (اکڑ جاتا ہے)۔

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدَّ عَاءٍ عَرِيضٍ

اور جب لگے اس کو برائی (تکلیف)، تو دعائیں کرے (لمبی) چوڑی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ

تو کہہ، بھلا دیکھو تو! اگر یہ (قرآن) ہو اللہ کے پاس سے، پھر تم نے اس کو نہ مانا،

مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

اور اس سے بہکا کون جو دور چلتا جائے مخالف ہو کر۔

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنََّّهُ الْحَقُّ

ہم دکھائیں گے انکو اپنے نمونے دنیا میں اور آپ اسکی جان میں، جب تک کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنََّّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

کیا تیرا رب تھوڑا (کافی نہیں) ہے ہر چیز پر گواہ، سنتا ہے؟

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ

(آگاہ رہو) وہ دھوکے (شک) میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے۔

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

سنتا ہے! وہ گھیر رہا (احاطہ کئے ہوئے) ہے ہر چیز کو۔

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com